

## FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	اگر خشک ہو تو دھوئیں	A. صابن سے B. بیسن سے C. گلیسرین سوپ سے D. کوئی نہیں
2	روغی غذائیں کیسے بضم ہوتی ہیں	A. بہت جلد B. بہت دیر سے C. آہستہ آہستہ D. ہوتی ہی نہیں
3	کون سی غذا صرف مزے کے لیے کھائی جاتی ہے	A. مٹھائی B. پان C. شکر D. حلوا
4	کپڑوں کی سلانی ایک ہے	A. اصول B. آرٹ C. مہارت D. ہنر
5	کچھ لوگ کون سی مشقت سے زیادہ زہنی کام کرتے ہیں	A. نفسیاتی مشقت B. زہنی مشقت C. جسمانی مشقت D. کوئی نہیں
6	ہڈیوں اور دانتوں کی نشوونما کے لیے کیا معاون ہوتا ہے	A. نشاستہ B. حیاتین الف C. چکنائی D. حرارے
7	دھاگے سے کپڑا بننے تک کے مراحل ہیں	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
8	ایموں اور ٹمائر ہیں	A. حیاتین الف B. حیاتین ب C. حیاتین ج D. کوئی نہیں
9	بہتر سلانی کے لیے کس کو بہتر طریقے سے لگانا بہت ضروری ہے	A. بیڈ کو B. لیور کو C. پرزہ کو D. سونی کو
10	ہمارے جسم کون سی مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے	A. خلیات کا B. ریشہ کا C. ہڈیوں کا D. بافتوں کا
11	کونسا نظام ٹھیک کام نہ کرے تو ہڈیاں کمزور ہوجاتی ہیں	A. نظام استخوان B. نظام تنفس C. نظام اخراج D. نظام عضلات
12	مکمل پروٹین یا ضروری امینو ترشے کتنے ہوتے ہیں	A. دو B. چھ C. چار D. آٹھ
13	حیاتین (د) کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے	A. سورج کی شعاعیں B. پھلوں اور سبزیوں کا استعمال C. سنگتروں کا استعمال D. اناج ، دالوں کا استعمال
14	نپنے والا فیتہ عموماً کتنے انچ کا ہوتا ہے	A. 60 انچ B. 40 انچ C. 70 انچ D. 20 انچ
15	کیلشیم کی انتہائی کمی کی صورت میں ایک خاص بیماری بھی ہوسکتی ہے جسے	A. ٹپ نق B. رکنس C. خناق D. ملیریا

16	پورے دن کی کھانے کی تفصیل کو کیا کہتے ہیں	A. فہرست امر B. فہرست وقت C. فہرست طعام D. فہرست اشیاء
17	ریشم کے تار کی لمبائی ہوتی ہے	A. 200 گز سے B. 400 گز سے C. 800 گز سے D. 500 گز سے
18	صفائی ایمان ہے	A. نصف B. آدھا C. پورا D. کوئی نہیں
19	کھانوں کے درمیان کم از کم کتنے گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے	A. دو گھنٹوں کا B. چار گھنٹوں کا C. تین گھنٹوں کا D. پانچ گھنٹوں کا
20	رقم کے عوض کسی بھی چیز کا حصول کیا کہلاتا ہے	A. خریداری کا عمل B. نقصان کا عمل C. خرید و فروخت D. منافع کا عمل